

ثال مثل کی عادت سے نجات، ریٹائٹ، مترجم: حافظ مظفر حسن۔ ناشر: سیونہ۔ کائی جلی کیشنز،  
غزنی سٹریٹ، الحمد مارکیٹ، ۴۰- اردو بازار، لاہور۔ فون: ۲۲۳۵۸۴-۷۔ صفحات: ۲۶۳۔ قیمت:  
۲۰۰ روپے

لیت و لعل اور تال مثل کی عادت ایک عادت بد ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی  
میں بے حد نقصان اٹھاتا ہے۔ تال مثل کی عادت کسی بھی انسان کو وراثت میں نہیں ملتی اور نہ یہ  
عادت انسان کی شخصیت اور کردار کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ یہ محض ایک عادت اور رویہ ہے اور یہ عادت  
انسان کی زندگی پر بُرے اثرات مرتب کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان دباؤ اور تباہی کا شکار ہو جاتا  
ہے۔ نتیجے کے طور پر اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔

مصنف نے انسان کے خوف و ہراس میں مبتلا ہونے کی ممکنہ وجوہات کا جائزہ لیتے ہوئے  
بتایا ہے کہ وہ کون کون سے خوف اور خطرات ہیں، جو انسان کی راہ کی دیوار بنتے ہیں اور ان سے  
کیسے نبٹا جا سکتا ہے۔ پھر بہتر زندگی گزارنے کے لیے کام کو بروقت اور منصوبہ بندی کے تحت سرانجام  
دینے کے بہت سے گُر بتائے ہیں۔ مختلف لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے تجربات کا نچوڑ پیش کیا گیا  
ہے۔ منظم، بھرپور اور متحرک زندگی گزارنے کے لیے اہم اصولوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مترجم نے  
Stop Procrastinating کا تال مثل کی عادت سے نجات خوب صورت ترجمہ کیا ہے۔ وقت  
کی قدر و قیمت جاننے، اپنے معمولات کو بے ترتیب ہونے سے بچانے اور منصوبوں کو احسن طریقے  
سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ مفید رہنمائی ہے۔ (محمد الیاس انصاری)

رو بہ زوال امریکی ایمپائر، حامد کمال الدین، ناشر: مطبوعات ایقظا، ۶-۱۷ ذیلدار پارک

اچھرہ، لاہور۔ صفحات: ۱۲۱۔ قیمت: ۱۰۰ روپے

دہشت گردی کی نام نہاد امریکی جنگ نے عالم اسلام کے اصحاب دانش کو بھی غور و فکر کے  
نئے دور اہوں پر لاکھڑا کیا ہے۔ مغرب کی اس نئی اور کھلی جارحیت کے پس منظر اور داعیے کو  
سمجھنے سمجھانے کی بحث زوروں پر ہے۔ فاضل مصنف نے ابن ابی شیبہ کی اس روایت سے استدلال  
کیا ہے کہ فارس تمھاری ایک نکر ہوگا (یا بڑی حد) دو۔ پھر فارس کو اللہ مفتوح کرادے گا مگر روم کے